

ROOTWORDS AT TAUBAH 117-129

رَحِيبٌ	صَاقَتْ	خَلَّفُوا	يَزِيغُ	كَادَ	الْعُسْرَةَ
رح ب	ض ي ق	خ ل ف	ز ي غ	ك و د	ع س ر
فراہی	تگ ہو گئی	ملوثی کیا گیا	پھر جائیں	قرب تھا	مشکل / تنگی
يَطْلُونُ // مَوْطِنًا	مَخْمَصَةٌ	ظَمًا	يَزْعَبُوا	يَتَخَلَّفُوا	مَلَجًا
و ط ا	خ م ص	ظ م ا	ر غ ب	خ ل ف	ل ج ا
وہ چلتے ہیں / کوئی قدم	بھوک	بیاس	عزیز سمجھیں	چھپے رہ جائیں	پناہ
سَاقَةٌ	لِيَنْفُرُوا	يَقْطَعُونَ	يُضِيعُ	يَنَالُونَ // نِيَالًا	يَعْظُمُ
ک ف ف	ن ف ر	ق ط ع	ض ي ع	ن ي ل	غ ي ظ
سب کے سب	کہ وہ نکل کھڑے ہوں	وہ طے کرتے ہیں	ضائع کرتے	وہ لیتے / کوئی چیز	غصہ آئے
حَسْبِي	عَيْشُمُ	انصَرَفُوا	عِظَةٌ	يَلُونَكُمْ	يَخْذَرُونَ
ح س ب	ع ن ت	ص ر ف	غ ل ظ	و ل ي	ح ذ ر
مجھے کفایت کرتا ہے	تمہاری تکلیف	پھر جاتے ہیں	سخنی	تمہارے نزدیک کے	وہ بچتے رہیں